

الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا الصِّبْغًا مِنْ
الْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَى

كِتَابِ اللَّهِ

الْبُحْرَانِ بِذَلِكَ تَمَّ بَيَانُ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٣٤﴾

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿٣٤﴾ فِي كِتَابٍ مَحْفُوظٍ ﴿٣٥﴾

But it is a glorious reading. In a preserved tablet.
بلکہ وہ شاندار پڑھائی ہے۔ محفوظ تختی میں ہے۔

Have you not seen those who were given the
portion from the book, they are
being invited towards
BOOK OF ALLAH
so that it governs between
them. Then a division from them
turn away and they are those who avoid.

کیا تو نے ان کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے
حصہ دیا گیا وہ پکارے جاتے ہیں

اللہ کی کتاب

کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان حکم دے پھر ان میں
سے ایک فریق پلٹ جاتا ہے اور وہ سب اعراض کرنے والے ہیں۔

Surely it is indeed a reading honorable. In a hidden book.
یقیناً وہ ضرور کرم والی پڑھائی ہے۔ چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٣٦﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٣٧﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَلِكُ جَلَّ جَلَالُهُ	الرَّحِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ	الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ	هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	
الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُهَيَّمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُؤْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ	السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْقُدُّوسُ جَلَّ جَلَالُهُ
الْمُصَوِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْبَارِئُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ
الْفَتَّاحُ جَلَّ جَلَالُهُ	الرَّزَّاقُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْوَهَّابُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْقَهَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْغَفَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ
الرَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْخَافِضُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْبَاسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْقَابِضُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْعَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ
الْحَكَمُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ	السَّمِيعُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُدِّلُّ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُعِزُّ جَلَّ جَلَالُهُ
الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْحَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ	اللَّطِيفُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْعَدْلُ جَلَّ جَلَالُهُ
الْحَفِيفُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْكَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْعَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ	الشُّكُورُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْغُفُورُ جَلَّ جَلَالُهُ
الرَّقِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْحَسِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ	الْمُقِيتُ جَلَّ جَلَالُهُ

الْمَجِيدُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْوَدُودُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْحَكِيمُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْوَاسِعُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمُجِيبُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْقَوِيُّ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْوَكِيلُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْحَقُّ
جَلَّ جَلَالُهُ

الشَّهِيدُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْبَاعِثُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمُبْدِئُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمُحْصِي
جَلَّ جَلَالُهُ

الْحَمِيدُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْوَلِيُّ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمَتِينُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْقَيُّومُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْحَيُّ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمُمِيتُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمُحْيِي
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمُعِيدُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْقَادِرُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْصَّمَدُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْوَاحِدُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمَاجِدُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْوَاحِدُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْآخِرُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْأَوَّلُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمُؤَخَّرُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمُقَدِّمُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمُقَدِّرُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْبَرُّ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمُتَعَالِي
جَلَّ جَلَالُهُ

الْوَالِي
جَلَّ جَلَالُهُ

الْبَاطِنُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الظَّاهِرُ
جَلَّ جَلَالُهُ

مَالِكُ الْمَلِكِ
جَلَّ جَلَالُهُ

الرَّؤُفُ
جَلَّ جَلَالُهُ

العَفْوُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمُنْتَقِمُ
جَلَّ جَلَالُهُ

التَّوَابُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمَغْنِي
جَلَّ جَلَالُهُ

الْغَنِيُّ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْجَامِعُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمُقْسِطُ
جَلَّ جَلَالُهُ

ذَوِ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْهَادِي
جَلَّ جَلَالُهُ

النُّورُ
جَلَّ جَلَالُهُ

النَّافِعُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الضَّارُّ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْمَانِعُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الصَّبُورُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الرَّشِيدُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْوَارِثُ
جَلَّ جَلَالُهُ

الْبَاقِي
جَلَّ جَلَالُهُ

الْبَدِيعُ
جَلَّ جَلَالُهُ

پیش لفظ

لغات قرآن، الفاظ قرآن، صرف و نحو پر مبنی تصریحات اور قرآن کے الفاظ کو مختلف مقامات پر آسانی سے تلاش کرنے میں مختلف حضرات نے مختلف انداز میں اپنی فہم کے مطابق قرآن مجید کی خدمت کی ہے اور اس پر مبنی کتابیں شائع کی ہیں جن کی عام لوگوں کی سمجھ اور فہم کے لحاظ سے افادیت مسلم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک ایسی جدت کی ضرورت تھی جس میں قرآن کے الفاظ کی مختلف رنگوں سے گرامر کی نشاندہی کی جاسکے اور ان رنگوں سے ہر پڑھنے والا یہ سمجھ سکے کہ قرآن کے ہر لفظ کا کون سا مادہ ہے اور صرف و نحو کے لحاظ سے وہ لفظ اسم ہے، فعل یا حرف ہے اور وہ کس حالت میں استعمال ہوا ہے۔ الحمد للہ یہ کاوش اللہ نے کامیاب کی اور اب اس طرح کا قرآن پیش کیا جا رہا ہے جو عام پڑھنے والے کو مختلف رنگوں کی مدد سے ہر قرآنی لفظ کی گرامر کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس رنگین قرآن کے ساتھ آخر میں ایک کتابچہ بھی منسلک کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے ”انگریزی اور اردو زبان میں قرآن کی عربی گرامر مختلف رنگوں کی نشاندہی کے ساتھ آسان کی گئی“۔ یہ کتابچہ ہر پڑھنے والے کو اردو اور انگریزی میں عربی گرامر کی مختلف اصطلاحات کے رنگوں کی شناخت کرائے گا اور یہ وضاحت کرائے گا کہ قرآنی الفاظ کے مادے، مختلف اسم، فعل اور حرف کس رنگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کتابچے میں پڑھنے والے کے لیے ترتیب وار عربی گرامر کی اصطلاح کی تعریف اور اس کے ساتھ اس کی لفظی مثالیں اور مختلف ابواب کی گردانیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بھول سے کوئی حرف یا اعراب نظر انداز ہو گیا ہو یا طباعت کے دوران مٹ گیا ہو یا جلد بندی میں کوئی غلطی ہو تو اسے بشری غلطی کے تقاضے پر معمول کرتے ہوئے ضرور مطلع کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔

اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔

محمد شیخ

PREFACE

In different times various people have served the Qur'an by making it easy for others to look up and search different words of the Qur'an for developing a better understanding of the only book of God. They have also presented their works based on Qur'anic language, words, grammatical inflection and construction of Qur'anic words. In this connection they have published many books which are a great deal of convenience and a tool that holds great importance even today. However something was missing in these efforts of what has already been done, the grammar of the Qur'an could be made even easier for the reader. An innovation was needed to get acquainted with the grammar of the Qur'an. Now by the grace of Allah, the grammar of the Qur'an is made much easier for people by coloring the words of the Qur'an.

This Qur'an is being presented to an average reader where colors help them understand every word of the Qur'an with its grammatical value. The colors point out these grammatical values in great detail, such as roots of all the Qur'anic words, nouns, verbs, particles and their syntactical cases (i.e changes in the shape of words).

In the end of this colored Qur'an a booklet is attached entitled **“Arabic Grammar of Qur'an made easy with different colors in English and Urdu”**. This booklet contains definitions and principles of Arabic grammar with examples that provide know-how of Qur'anic grammar to a common man.

Besides that, if you come across any human error or printing mistake, please do inform us so that the error can be rectified. I will be obliged by your efforts in highlighting such errors. May Allah accept my humble effort, Aameen.

Muhammad Shaikh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف

ہم کسی بھی زبان کو جب سیکھنے جاتے ہیں تو اُس کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جن پر وہ زبان قائم ہوتی ہے۔ ان اصولوں کو آسان لفظ میں گرامر کہا جاتا ہے یا جس کو ہم اُردو میں اصولِ صرف و نحو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارا مقصد اس کتابچے کی مدد سے قرآن کی عربی گرامر کو رنگوں کی نشاندہی کے ساتھ سمجھنا ہے جس میں منتخب رنگوں کے ذریعے عربی گرامر کی اصطلاح کو سیکھنے والوں کے لئے نشاندہی کی گئی ہے۔ ان اصطلاحات کو مختلف عبارات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے جن کی تفصیل قرآن کی مثالوں سے نیچے دی گئی ہے۔ آئیے اس کا آغاز کریں۔

مادہ

عربی زبان میں کسی بھی لفظ کو تلاش کرنے کے لئے اُس لفظ کا مادہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ مادہ تین حروف پر مبنی ہوتا ہے، یہ لفظ اسم یا فعل کی حالت میں ہوتا ہے اس کتابچے میں جو رنگ مادے کے لئے مخصوص کیا گیا ہے وہ کالا ہے۔

(۱) قرآن سے اسم کے مادے کی مثالیں۔

اَلْكِتَابُ (البقرة ۲ : ۲) میں ہے اس لفظ الكتاب کا مادہ ک + ت + ب ہے، دوسری اسم کی مثال خَالِقٌ (الانعام ۶ : ۱۰۲) میں ہے۔ اس میں لفظ خَالِقٌ کا مادہ خ + ل + ق ہے۔ ان دونوں اسم کی مثالوں میں مادے کی کالے رنگ سے نشاندہی کی گئی ہے جو قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 20 پر درج ہے۔

(۲) قرآن سے فعل کے مادے کی مثالیں۔

يَكْتُبُ (البقرة ۲ : ۲۸۲) میں ہے۔ اس فعل يَكْتُبُ میں اُس کا مادہ ک + ت + ب ہے اور دوسری فعل کی مثال يَخْلُقُ (آل عمران ۳ : ۴۷) میں ہے، جس میں يَخْلُقُ کا مادہ خ + ل + ق ہے۔ ان دونوں فعل کی مثالوں میں مادے کی کالے رنگ سے نشاندہی کی گئی ہے جو قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 21 پر درج ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Introduction

When we start learning a new language, we will always find some rules and principles on which that language is structured. In other words these rules or principles are called grammar, here in this book we will try to understand the grammar of the Quran through colors. Quranic Arabic terminologies are presented through selected colors which will help us to understand their grammatical values. These terminologies are further divided into groups to make them easy to learn and understand, you will also find relative examples from the Quran to grasp their implementation in Arabic language.

Let us start the learning process.

Root

To lookup any word in an Arabic dictionary you must know its root letters, normally root letters are made up of three letters. These words are either a noun or a verb, the color assigned to root in this booklet is black.

Examples from the Quran:

1. Roots of Noun

الْكِتَابُ (Al Baqara 2:2) root of this word (Ka+Ta+Ba)

خَالِقٌ (Al Anam 6:102) root of this word (Kha+La+Qa)

Both of these examples are colored black to indicate roots of Noun, you can find the details of this on page # 20 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

2. Roots of Verb

يَكْتُبُ (Al Baqara 2:282) root of this word (Ka+Ta+Ba)

يَخْلُقُ (Aal e Imran 3:47) root of this word (Kha+La+Qa)

Both of these examples are colored black to indicate roots of verb, you can find the details of this on page # 21 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

فعل

فعل وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کام کے ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ کام کا ہونا یا تو ماضی کی یا مضارع / حال کی یا مستقبل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عربی میں فعل کی نشاندہی تین حروف سے کی جاتی ہے جو بنیادی طور پر فَعَلَ کے وزن پر ہوتی ہے۔ فعل کے یہ تین حروف کسی بھی لفظ کے مادے کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ فعل کے ان تین حروف کی نشاندہی بھی کالے رنگ سے کی گئی ہے جسکی مثال قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 21 پر درج ہے۔

قرآن سے فعل کی مثالیں۔ دَخَلَ (آل عمران ۳: ۳۷) میں ہے۔ یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور دوسری مثال قَتَلَ (البقرة ۲: ۲۵۱) میں ہے اور یہ بھی ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ان دونوں فعل ماضی کی نشاندہی بھی کالے رنگ سے کی گئی ہے جو قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 21 پر درج ہے۔

مزید فعل کی گردان اس کے رنگوں کے ساتھ اس کتابچے کے صفحہ نمبر 22 اور 23 پر دی گئی ہے جس میں صیغہ مضارع ماضی، مستقبل، امر و نہی، ماضی و مضارع مجہول، غائب، حاضر، متکلم اور اُس کے جنس اور عدد کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تین حروف والے فعل کے 6 باب کی وضاحت بھی اس کے رنگوں کے ساتھ جو قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 23 سے 25 پر درج ہے۔

افعال ناصبہ

كَانَ اور لَيْسَ وہ فعل ہوتے ہیں جو جملے میں آنے والے اسم کی خبر کو زبردے کر نصب کرتے ہیں۔ اس کی مثال جو قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 21 پر درج ہے۔

ثلاثی مزید فیہ

ثلاثی مزید فیہ میں بنیادی طور پر مادہ تو تین حروف پر ہی مبنی ہوتا ہے لیکن اس کے اسم مصدر اور فعل میں کچھ مزید حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مصدر کی تعریف یہ ہے کہ یہ اسم ہی ہوتا ہے لیکن اس میں کام کا ہونا پایا جاتا ہے اور جس میں ماضی، حال اور مستقبل کی نشاندہی نہیں ہوتی۔

Verb

Verb is a word used to describe an action, this can be in past tense, present or future tense. In Arabic language verb is indicated by three letters, which is normally on the pattern of **فَعَلَ** (Fa+aa+la). These three letters of verb also demonstrate the roots of a word, the root letters of verb are also indicated with black color, you can find the details of this on page # 21 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Examples of verb from the Quran:

These two examples below is of past tense 3rd person masculine singular.

دَخَلَ (Aal e Imran 3:37) root of this word (Da+Kha+La)

قَتَلَ (Al Baqara 2:251) root of this word (Qa+Ta+La)

Both of these examples are colored black to indicate past tense, you can find the details of this on page # 21 of attached grammar booklet in the end of the Quran. In addition the inflections of verbs are also indicated in colors, you can find the details of this on page # 22 & 23 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Inflections of verb include present tense, past tense, future tense, imperative and prohibition mood, past and present passive voice, 3rd person, 2nd person, 1st person and it's gender and number are also clarified on page number 22 & 23 of attached grammar booklet in the end of the Quran. Besides that, six forms of three letters verbs are also explained on page number 23 to 25 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Accusative Verb

(**كَانَ** / Kana) and (**لَايَسَ** / Laisa) are the verbs that gives Zabar (ز) to the predicate of the noun and making it objective case, you can find the details of this on page # 21 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Additional Verbal Noun

Here the root is also based on three letters, however you will find some additional letters in verbal nouns and verbs. A verbal noun is a noun derived from a verb, which indicates some action and there is no restriction of past, present or of future tense.

ماڈے کے بنیادی تین حروف میں جن مزید حروف کا اضافہ ہوتا ہے اُس کی وجہ سے مزید ابواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس اسم اور فعل میں حروف کے اضافے کی وجہ سے ہی اسے ثلاثی مزید فیہ کہا جاتا ہے جس کی نشاندہی سرمئی رنگ سے کی گئی ہے۔ ان تمام ابواب، مصادر، افعال اور اُن کی گردانوں کی تفصیل اور مثال اُن کے رنگوں کے ساتھ قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 26 سے 30 پر درج ہے۔

فعل اور اسم میں مادے کی تبدیلی

عربی زبان میں 'ا، و، اور ی' تین حروفِ عِلّت / Vowels ہیں۔ عِلّت کے معنی بیماری ہے۔ جس فعل کے مادہ میں حرفِ عِلّت شامل ہو جائے اُسے غیر صحیح / معتل فعل کہتے ہیں۔ ان تین حروفِ عِلّت میں سے کوئی حرف جب مادے میں آجائے تو اس کے بنیادی مادے میں ایک حرف کی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اُس ایک لفظ کی تبدیلی کی مثالیں سرمئی رنگ کے ساتھ قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 20 پر درج ہے۔

مثال فعل = قَالَ (مادہ ق و ل) (البقرة 2:30)

= كَانَ (مادہ ک و ن) (البقرة 2:34)

مثال اسم = النَّاسُ (مادہ ن و س) (البقرة 2:213)

= دُنْيَا (مادہ د ن و) (البقرة 2:201)

= تَقْوَى (مادہ وق ی) (توبه 9:109)

اسم

اسم کا مطلب نام ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص، جگہ، جانور یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ عربی میں اسم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اسم نکرہ ہے اور دوسرا اسم معرفہ ہوتا ہے۔ ان دونوں قسم میں نکرہ وہ اسم ہوتے ہیں جو مخصوص نہیں ہوتے بلکہ عام معنوں میں بولے جاتے ہیں۔ جبکہ اسم معرفہ مخصوص ناموں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے یا پھر کسی بھی نام یا اسم نکرہ سے پہلے جب (اَلْ) لگ جائے تو یہ اسم نکرہ کو اسم معرفہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ان دونوں کی مثالیں اس کے رنگوں کے ساتھ قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 1 پر درج ہے۔

The number of forms increase due to the additional letters which are added to the basic three letter roots. The addition of letters to the roots of nouns and verbs is the reason why these are called additional verbal nouns, in this booklet they are indicated with grey color. The details of forms, verbal nouns, verbs and their inflections, along with their examples and color indications are given on page number 26 to 30 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Root Change in Verb & Noun

There are three vowels in Arabic language, these are Humza, وَ / Vao and يَ / Ya. Whenever these three letters come in a root of a word then there is a change in one letter of the root. The example in the change of letter is indicated by grey color on page number 20 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example of Verb قَالَ (ق و ل root) (Al Baqara 2:30)

كَانَ (ك و ن root) (Al Baqara 2:34)

Example of Noun النَّاسُ (ن و س root) (Al Baqara 2:213)

دُنْيَا (د ن و root) (Al Baqara 2:201)

تَقْوَى (ت ق و ي root) (At Tauba 9:109)

Noun

Noun is a name of any person, place, animal or thing. There are two types of Nouns in Arabic language. These two are common noun and proper noun. Common nouns are general nouns and not specific with anything. On the other hand proper noun made anything particular by adding (اَلْ) in common noun as adding (the) in English before any common noun. Its examples with colors is indicated on page No.1 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

- مثال اسم نکرہ مذکر = کِتَابٌ (فُصِّلَتْ 3:41)
- مثال اسم نکرہ مؤنث = بَقْرَةٌ (البقرة 2:68)
- مثال اسم معرفہ مذکر = الْقَمَرُ (رحمن 5:55)
- مثال اسم معرفہ مؤنث = الشَّمْسُ (رحمن 5:55)

اسم معرفہ مادّہ

وہ عربی اسم/نام جو معرفہ/مخصوص ہوتے ہیں اور اپنا مادّہ رکھتے ہیں اور مُنْصَرَف ہوتے ہیں۔ اور گرامر کے مطابق مختلف حالتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

مثال: مُحَمَّدٌ، صَالِحٌ

اسم معرفہ بغیر مادّہ

وہ عربی اسم/نام جو معرفہ/مخصوص ہوتے ہیں اور مادّہ نہیں رکھتے اور بُنّی ہوتے ہیں اور گرامر کے مطابق کسی بھی حالت میں نہیں بدلتے۔

مثال: اِبْرَاهِيمُ، مُوسَى، عِيسَى

صفت

صفت بھی اسم سے منسلک ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص یا چیز کی اچھی یا بری خصوصیات یا حالت کو صفت کہتے ہیں۔ ان صفات کی مثالیں اُس کے رنگوں کے ساتھ قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 2 پر درج ہے۔

مثال صفت = الرَّحْمَنُ (البقرة 2:163)

= الرَّحِيمُ (البقرة 2:163)

ضمیر

عربی گرامر میں ضمیر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو جملے میں اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں اس کے رنگوں کے ساتھ قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 2 پر درج ہے۔

مثال = نَحْنُ (البقرة 2:11)

= هُمْ (البقرة 2:8)

Example of Masculine Common noun	كِتَابٌ	(Fussilat 41:3)
“ Feminine Common noun	بَقْرَةٌ	(Al Baqara 2:68)
“ Masculine Proper Noun	الْقَمَرُ	(Ar Rahman 55:5)
“ Feminine Proper noun	الشَّمْسُ	(Ar Rahman 55:5)

Proper Noun with Root

Those Arabic proper nouns that have roots and fully changeable in different cases of grammar.

Example مُحَمَّدٌ ، صَالِحٌ

Proper Noun without Root

Those Arabic people names that are not having roots are fixed and non changeable grammatically in any case.

Example إِبْرَاهِيمُ ، مُوسَى ، عِيسَى

Adjective

Adjective is a quality of any person, place and thing. This is also linked with noun. The example of these with color are indicated on page 2 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example الرَّحْمَنُ (Al Baqara 2:163)

الرَّحِيمُ (Al Baqara 2:163)

Pronoun

In Arabic grammar pronouns are those words that are used instead of a noun in a sentence. Its examples with colors are indicated on page 2 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example نَحْنُ (Al Baqara 2:11)

هُمُ (Al Baqara 2:8)

اسم موصول

اسم موصول وہ الفاظ ہوتے ہیں جو جملے میں اپنے سے پہلے یا بعد والے الفاظ کے ساتھ ایک تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی مثال الذی، الذین اور اللّٰتی قرآن میں موجود ہیں۔ یہ تعریف اور مثال اُس کے رنگ کے ساتھ قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 2 پر درج ہے۔

مثال = الذّٰی (البقرة 2:27)

= الذّٰی (البقرة 2:29)

اسم اشارہ

اسم اشارہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ یا نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ اشارہ / نشاندہی یا تو قریب کا ہوتا ہے یا بعید / دُور کا ہوتا ہے۔ اس کی رنگوں کے ساتھ مثالیں قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 2 پر درج ہے۔

مثال اسم اشارہ قریب = هذا (آل عمران 3:37)

= هُنَّ (النساء 4:78)

مثال اسم اشارہ بعید / دُور = ذٰلِكَ (البقرة 2:2)

= اُوٰلٰئِكَ (البقرة 2:5)

اسم فاعل

فاعل کے لفظی معنی کام کرنے والا / والی ہے۔ اس کی نشاندہی لفظ کے 'ع' کلمے سے پہلے 'ا' (الف) لگا کر کی جاتی ہے۔ اس کی رنگ کے ساتھ مثالیں قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 3 پر درج ہے۔

مثال فاعل = خَالِقٌ (الحجر 15:28)

= كَاتِبٌ (البقرة 2:282)

اسم مفعول

یہ وہ حالت ہے جس میں کسی شخص یا چیز پر کام کئے جانے کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس میں 'ف' کلمے سے پہلے حرف 'م' کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور 'ع' کلمے کے بعد حرف (و) کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال رنگ کے ساتھ قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 3 پر درج ہے۔

Relative Pronoun

Relative pronouns are those words that are used for connection in a sentence. Its example with colors are indicated on page 2 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example	الَّذِينَ	(Al Baqara 2:27)
	الَّذِي	(Al Baqara 2:29)

Demonstrative Pronoun

Demonstrative pronouns are those words that point out the person, place and thing. Their indications are either for near or distant persons and things. The indication of its examples with its color are given on page 2 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example	هَذَا	(Aal e Imran 3:37)
	هَؤُلَاءِ	(An Nisa 4:78)
	ذَلِكَ	(Al Baqara 2:2)
	أُولَئِكَ	(Al Baqara 2:5)

Active Participle

The active participle is a person who performs the action. It is indicated by adding ا / alif before ع / ain kalima / word. Its examples with colors are given on page 3 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example Active Participle	خَالِقٌ	(Al Hijr 15:28)
	كَاتِبٌ	(Al Baqara 2:282)

Passive Participle

Passive participle is the condition where action is performed on a person or thing. Its indication is that م / Ma is added before ف / Fa kalima / word and و / Vao is added after ع / ain kalima / word. Its example with colors are given on page 3 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

مثال = مَعْضُوبٍ (الفاتحة 7:1)
 = مَكْتُوبًا (اعراف 7:157)

فعل معلوم

یہ وہ فعل ہوتے ہیں جس میں جملے کے اندر فاعل ر کرنے والا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی رنگ کے ساتھ مثال قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 3 پر درج ہے۔

مثال = دَخَلَ (يُوسُف 12:36)
 = يَدْخُلُ (البقرة 2:111)

مذکر جنس اور عدد

ہر زبان کی طرح عربی زبان میں بھی کوئی بھی شخصیت یا چیز یا جگہ کی ایک جنس / Gender ہوتی ہے۔ یہ جنس یا تو مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے۔ پھر یہ مذکر یا مؤنث واحد ہوتا ہے، تشنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ ان سب کی عدد / Number کے حساب سے رنگوں سے نشاندہی کی گئی ہے۔ ان سب کی مثال رنگوں کے ساتھ قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 3 سے 5 پر درج ہے۔

مثال مذکر واحد = مُسْلِمًا (آل عمران 3:67)

مثال مذکر تشنیہ = مُسْلِمِينَ (البقرة 2:128)

مثال مذکر جمع سالم = مُسْلِمُونَ (البقرة 2:136)

مثال مذکر جمع سالم = مُسْلِمِينَ (اعراف 7:126)

اس کے علاوہ ایک اور قسم مذکر جمع مکسر بھی ہوتی ہے، مکسر کے معنی ٹوٹنے کے ہیں جس میں اسم واحد جب جمع مکسر میں آتا ہے تو اس کے الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں یا اُس میں کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے یا کوئی حرف حذف ہو جاتا ہے۔ اس کے کئی وزن ہوتے ہیں، اس کی مثال رنگ کے ساتھ قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 3 سے 5 پر درج ہے۔

مثال = رَجُلٌ : رَجَالٌ (النساء 4:34)

= رَسُولٌ : رُسُلٌ (البقرة 2:253)

Example مَغْضُوبٌ (Al Fatihah 1:7)

مَكْتُوبًا (Al Araf 7:157)

Active Voice

In this verb the subject/performer of an action is known in the sentence. Its examples with colors are given on page 3 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example دَخَلَ (Yousuf 12:36)

يَدْخُلُ (Al Baqara 2:111)

Masculine Gender and Number

In Arabic language every person or thing has a gender. This gender is either masculine or feminine. Then this masculine or feminine gender is either singular, dual or plural. The examples of these are given with colors on page 3 to 5 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example Masculine Singular مُسْلِمًا (Aal e Imran 3:67)

Masculine Dual مُسْلِمَيْنِ (Al Baqara 2:128)

Masculine Sound Plural مُسْلِمُونَ (Al Baqara 2:136)

Masculine Sound Plural مُسْلِمِينَ (Al Araf 7:126)

Besides that there is mukassar / broken masculine plural. In this plural, the letters of a word is broken or letters are added or removed from a word. It has many patterns in Arabic language. The examples for there are given on page 5 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

These are the examples of masculine broken plural.

Example رَجَالٌ : رَجُلًا (An Nisa 4:34)

رُسُلٌ : رَسُولًا (Al Baqara 2:253)

حروف مقطعات

مقطعات کے معنی قطع / الگ کئے ہوئے حروف ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی مختلف سورتوں میں شروع میں آئے ہیں۔ یہ عربی زبان کے حروف کی بنیادی شکل اور بناوٹ کی پہچان کراتے ہیں۔ ان حروف کی ہلکے گلابی رنگ سے اُس کی مثالوں کے ساتھ قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 5 پر درج ہے۔

مثال = **آلَم** (البقرة 2:1)

= **يَس** (يس 1:36)

= **ق** (ق 1:50)

مؤنث جنس اور عدد

ہر وہ شخصیت یا چیز یا جگہ جو مؤنث ہو اُس کے لئے عربی میں مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا۔ یہ مؤنث کا صیغہ واحد، تثنیہ یا جمع میں استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث کے رنگ کی اُس کی مثالوں کے ساتھ قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 5 اور 6 پر درج ہے۔

مثال واحد مؤنث = **اِمْرَاةٌ** (الاحزاب 33:50)

مثال تثنیہ مؤنث = **اِمْرَاتِنِ** (البقرة 2:282)

مثال مؤنث جمع سالم = **مُسْلِمَاتٌ** (الاحزاب 33:35)

اس کے علاوہ اس کی ایک اور قسم مؤنث جمع مکسر ہے۔ مکسر کے معنی ٹوٹنے کے ہیں، یعنی اسم واحد جب جمع بنتا ہے تو اس کے الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں یعنی یا تو اس میں کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے یا کوئی حرف حذف ہو جاتا ہے۔ اس کے کئی وزن ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اُس کے رنگ کے ساتھ قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 6 پر درج ہے۔

مثال مؤنث جمع مکسر = **عَيْنٌ - عِيُونٌ** (يس 36:34)

= **صَاعِقَةٌ - صَوَاعِقُ** (البقرة 2:19)

Disconnected Letters

These are not words but just are disconnected letters. These letters have occurred in the beginning of different surahs / chapters of Quran. These are the basic shapes and forms of letters in Arabic language which are indicated with examples in light pink color on page 5 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example	آلَم	(Al Baqara 2:1)
	يَس	(Yaseen 36:1)
	ق	(Qaf 50:1)

Feminine Gender and Number

In Arabic language feminine gender is used for any person or thing which is feminine. The feminine gender is either singular dual or plural. The examples for this with color are indicated on page 5 & 6 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example Feminine Singular	إِمْرَأَةٌ	(Al Ahzaab 33:50)
Feminine Dual	إِمْرَاتَيْنِ	(Al Baqara 2:282)
Feminine Sound Plural	مُسْلِمَاتٍ	(Al Ahzaab 33:35)

Besides that there is mukassar / broken feminine plural. In this plural, the letters of a word is broken or letters are added or removed from a word. It has many patterns in Arabic language. The examples for these are given on page 6 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

These are the examples of feminine broken plural.

Example	عَيْنٌ - عَيُونٌ	(Al Ahzaab 36:34)
	صَاعِقَةٌ - صَوَاعِقُ	(Al Baqara 2:19)

حرف

حرف وہ لفظ ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کے علاوہ ہوتے ہیں اور اسم اور فعل کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں۔ حرف کی اس کتابچے میں 31 طرح کی اقسام دی گئی ہیں جن کی ہرے رنگ سے نشاندہی کی گئی ہے ان سب حرف کی مثالیں قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 7 سے 14 پر درج ہے۔

اسم تفضیل

جب کسی شخص یا چیز کا درجے یا حیثیت کے مطابق مقابلہ کیا جائے تو اسے اسم تفضیل کہتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی شخصیت یا چیز دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر یا بُری سے یا سب سے اچھی یا بُری ہے۔ اسم تفضیل کی براؤن رنگ سے نشاندہی کی گئی ہے اور اس کی رنگوں کے ساتھ مثال قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 15 پر درج ہے۔

مثال مذکر = اَكْبَرُ (البقرة 2:219)

= اَحْسَنَ (الزمر 39:23)

مثال مؤنث = سُفْلَى (التوبه 9:40)

= عَلِيَا (التوبه 9:40)

اسم ظرف زمان و مکان

اس طرح کے اسم میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا وقت یا جگہ کا پتا چلتا ہے۔ اسم ظرف کی براؤن رنگ سے نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کی مثال قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 15 پر درج ہے۔

مثال ظرف زمان = بَعْدَ (البقرة 2:120)

= كَلَّمَا (البقرة 2:20)

مثال ظرف مکان = بَيْنَ (يونس 10:37)

= عِنْدَ (ابراهيم 14:37)

Particle

Particles are those words which are not verb and noun but used in connection with verb and noun. There are 31 types of particles mentioned in this booklet which are indicated by green color. The examples of these particles are given on page 7 to 14 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Comparative Noun

When any person or thing is compared with any other person or thing in rank, degree or status is comparative noun. This comparison is either in goodness, badness, greatness or smallness. This is indicated with examples in brown color on page 15 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example Masculine أَكْبَرُ (Al Baqara 2:219)

أَحْسَنَ (Az Zumar 39:23)

Example Feminine سُفُلَى (At Tauba 9:40)

عُلَى (At Tauba 9:40)

Adverb of Time & Place

Adverb of time and place is a type of noun that point out the time and place of a work or action. These adverbs are indicated in brown color with its example on page 15 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example Adverb of Time بَعْدَ (Al Baqara 2:120)

كَلَّمَا (Al Baqara 2:20)

Example Adverb of Place بَيْنَ (Younus 10:37)

عِنْدَ (Ibraheem 14:37)

فعل مجہول

یہ ایسا فعل ہوتا ہے جس کا جملے میں فاعل رکنے والا نامعلوم یا چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ اس میں الفاظ کا وزن فُعَل کے وزن پر ہوگا۔ فعل مجہول کی نشاندہی براؤن رنگ سے کی گئی ہے جس کی مثال قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 16 پر درج ہے۔

مثال = كُتِبَ (البقرة 2:183)

= قُتِلَ (الاسراء 17:33)

فعل امر

جس فعل میں کسی کام کو مخاطب سے کرنے کا حکم دیا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں۔ اس کی پہچان فعل مضارع کے شروع میں اسم مخاطب کی (ت) ہٹا کر (أ) لگا دیا جاتا ہے اور آخری حرف پر جزم لگایا جاتا ہے۔ اس کا وزن اِفْعَلْ، اُفْعَلْ اور اِفْعَلْ ہوگا۔ فعل امر کی براؤن رنگ سے نشاندہی کی گئی ہے اور اس کی مثالیں قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 16 پر درج ہے۔

مثال امر = اِغْفِرْ (مؤمنون 23:118)

= اِذْهَبْ (طہ 20:24)

= اُكْتُبْ (اعراف 7:156)

فعل نہی

جس فعل میں کسی کام کو کرنے سے روکا یا منع کرنے کا حکم دیا جائے اُس کو فعل نہی کہتے ہیں۔ اس کی نشاندہی فعل سے پہلے حرف نفی (لا) لگا کر کی جاتی ہے۔ اس فعل میں حرف نفی کے بعد (ت) لگائی جاتی ہے اور آخری حرف پر جزم لگایا جاتا ہے۔ اس کا وزن (لَا تَفْعَلْ) ہوگا اور اس کی نشاندہی براؤن رنگ سے کی گئی ہے اور اس کی مثالیں قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 16 پر درج ہے۔

مثال فعل نہی = لَا تَجْعَلْ (الحشر 59:10)

Passive Voice

This is a verb where a doer / performer of action is hidden or unknown and not expressed openly in a sentence. This is indicated with brown color and its examples are given on page 16 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example	كُتِبَ (Al Baqara 2:183)
	قُتِلَ (Al Isra 17:33)

Imperative Case

It is a verb where order is given to 2nd person for doing something. It's identification is to remove ت /Ta of 2nd person present tense and place اَ /hamza in place of ت /Ta and put و /jazam on last letter of a word. Its pattern in اَفْعُلْ, اُفْعُلْ and اِفْعُلْ indicated with brown color and its examples are given on page 16 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example of Imperative Mood	اَغْفِرْ (Al Mominoon 23:118)
	اِذْهَبْ (Taha 20:24)
	اَكْتُبْ (Al Araf 7:156)

Prohibition Particle

It is a verb where order is given to prohibit or not to do the action or work. It is identified by adding negative particle (لَا) before verb and put ت /Ta after negative particle (لَا) and put و /Jazam on the last letter of a word. Its pattern is (لَا تَفْعَلْ) and indicated with brown color. Its examples are given on page 16 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example of Prohibition Particle	لَا تَجْعَلْ (Al Hashr 59:10)
---------------------------------	-------------------------------

لام امر

لام امر بھی جملہ میں حکم دینے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ (ل امر) فعل سے پہلے لگتا ہے اور جملہ میں متکلم یا غائب کو کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ان الفاظ کا وزن (لِيَفْعَلْ) ہوتا ہے۔ لام امر کی نشاندہی براؤن رنگ سے کی گئی ہے اور اس کی مثال قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 17 پر درج ہے۔

مثال لام امر = وَلِيَكْتُبْ (البقرة 2:282)

= فَلْيَعْمَلْ (الكهف 18:110)

اعراب

اعراب وہ حرکات ہوتی ہیں جو لفظ کے آخری حرف پر لگائی جاتی ہیں۔ یہ دو پیش (۶) یا دو زبر (۷) یا دو زیر (۸) ہوتے ہیں یا ایک پیش (۹) ایک زبر (۱۰) اور ایک زیر (۱۱) بھی ہو سکتی ہیں۔ ان اعراب کی وجہ سے کسی بھی لفظ کی حالت کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ حالت رفع، نصب یا جر میں ہے۔ اعراب کی نشاندہی براؤن رنگ سے کی گئی ہے۔ اس کی مثال قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 17 پر درج ہے۔

حالت مرفوع

رفعی حالت میں کام کرنے والے کی نشاندہی لفظ کے آخری حرف پر دو پیش (۶) یا ایک پیش (۹) لگا کر کی جاتی ہے۔ حالت رفع کی نشاندہی براؤن رنگ سے کی گئی ہے اور اس کی مثال قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 18 پر درج ہے۔

مثال رفعی حالت = كِتَابٌ (ابراهيم 14:1)

حالت منصوب

نصبی حالت میں کسی شخص یا شے پر کام کئے جانے کی نشاندہی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر (۷) یا ایک زبر (۸) لگا کر کی جاتی ہے۔ حالت نصب کی نشاندہی براؤن رنگ سے کی گئی ہے اور اس کی مثال قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 18 پر درج ہے۔

مثال نصبی حالت = كِتَابًا (الزمر 39:23)

Imperative Lam

Lam imperative gives order to 1st person and 3rd person in a sentence by adding ل /Lam before verb. Its pattern is (يَفْعَلُ). It is indicated in brown color with its examples on page 17 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example of Lam Imperative	وَلْيَكْتُبْ	(Al Baqara 2:282)
	فَلْيَعْمَلْ	(Al Kahf 18:110)

Syntax

Syntax are harakaat / short vowels that are placed on the last letter of a word. They are two ُ /paish, one ِ / paish, two َ / zabar, one ِ /zabar, two َ / zer or one ِ /zer. These syntax identify the case of a word. These cases are nominative case, objective case and possessive case. It is indicated in brown color with its example on page 17 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Nominative Case

In this case the person / doer of action or a thing is indicated by two ُ / paish or one ِ / paish in brown color at the last letter of a word. It's example is given on page 18 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example Nominative Case	كِتَابٌ	(Ibraheem 14:1)
-------------------------	---------	-----------------

Objective Case

In this case the person or a thing is pointed out on whom the action is done. It is indicated by two َ / zabar or one ِ / zabar in brown color and its example is given on page 18 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example Objective Case	كِتَابًا	(Az Zumar 39:23)
------------------------	----------	------------------

حالت مجرور

جری حالت میں کسی شخص یا شے کی ملکیت کی نشاندہی اسم پر اُس کے آخری حرف پر دوزیر (ِ) یا ایک زیر (ِ) لگا کر کی جاتی ہے جس میں اسم سے پہلے حرف جر کا لگنا ضروری ہے۔ حالت جری کی نشاندہی براؤن رنگ سے کی گئی ہے اور اس کی مثال قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 18 پر درج ہے۔

مثال حالت جر = مِنْ كِتَابِ (الشورى 15:42)

مرکب جاری

جس مرکب میں حروف جر میں سے کوئی حرف آجائے اُسے مرکب جاری کہتے ہیں مرکب جاری کے پہلے حصے کو جائز اور دوسرے حصے کو مجرور کہا جاتا ہے۔ اس میں جار کی نشاندہی ہرے رنگ سے کی گئی ہے اور اس کے اعراب کی نشاندہی براؤن رنگ سے کی گئی ہے۔ اس کی مثال قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 18 پر درج ہے۔

مثال مرکب جاری = لِلْمُتَّقِينَ (البقرة 2:2)

مِنْ الْكِتَابِ (البقرة 2:174)

مرکب اضافی

یہ دو اسموں کا ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کی اضافت تعلق نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے۔ جس اسم کی نسبت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس اسم کی طرف نسبت کی جائے اُسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس کے رنگ اور مثال کی نشاندہی قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 19 پر درج ہے۔

مثال مرکب اضافی = كِتَابُ اللَّهِ (البقرة 2:101)

= رَسُولُ اللَّهِ (الفتح 29:48)

قرآن کے آخر میں دیئے گئے گرامر کے کتابچے کے صفحہ نمبر 31 سے 34 تک قاری کی سہولت کے لئے ایک چارٹ / Chart موجود ہے جس میں گرامر کی اصطلاحات اُس کی مثالوں اور رنگوں کے ساتھ مختصر اور جامع طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔

محمد شیخ

Possessive Case

This case point out the possession of a person or thing by putting two **مِنْ** / zer or one **مِنْ** / zer where preposition must comes before noun. This prepositional syntax is indicated in brown color with its example on page 18 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example Possessive Case

مِنْ كِتَابٍ

(Ash Shura 42:15)

Prepositional Compound

This is the compound where any of the preposition comes before noun. All prepositions are Jaar and the noun which is after preposition is majroor. Here the preposition is mentioned in green color and its syntax is indicated in brown color with its example on page 18 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example Prepositional Compound

لِلْمُتَّقِينَ

(Al Baqara 2:2)

مِنْ الْكِتَابِ

(Al Baqara 2:174)

Genitive Compound

It is the compound of two nouns where one noun has relation towards other noun. The noun which is related is مضاف / Mudaf and the noun towards whom it is related is مضاف إليه / Mudaf Ilaehe. Its examples with color is indicated on page 19 of attached grammar booklet in the end of the Quran.

Example Genitive Compound

كِتَابِ اللَّهِ


(Al Baqara 2:101)

رَسُولِ اللَّهِ

(Al Fatah 48:29)

In the end of the Quran a grammar booklet is attached where from page 31 to 34 a chart is given for the convenience of the reader, where collectively and briefly grammar terminologies are mentioned with their examples and colors.

Muhammad Shaikh



Published by:

INTERNATIONAL ISLAMIC PROPAGATION CENTRE CANADA

<http://www.iipccanada.com>

ISBN: 978-1- 9994931-0-3

الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى الْوُضُوءِ الْمُبِينِ

كِتَابِ اللَّهِ

لِيُخَلِّمَهُمْ بِهِمْ نَوْءًا مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمُ الْمُرْتَدِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْغُيُوبَ

Have you not seen those who were given the portion from the book, they are being invited towards

BOOK OF ALLAH

so that it governs between them. Then a division from them turn away and they are those who avoid.

کتاب اللہ کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا وہ پکارے جاتے ہیں

اللہ کی کتاب

کتاب اللہ کی طرف تاکر وہ ان کے درمیان حکم دے پھر ان میں سے ایک فریق الٹ جاتا ہے اور وہ سب اعراض کرنے والے ہیں۔

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿١٠﴾ فِي كِتَابٍ مَّحْفُوظٍ ﴿١١﴾

But it is a glorious reading. In a preserved tablet.

بلکہ وہ شاندار پر مصحفی ہے۔ محفوظ کتاب میں ہے۔

آیتہ العزیزان کریمہ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾ فی کتاب محفوظہ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾
Surely it is indeed a reading honorable. In a hidden book
بلکہ وہ ضرور کریم والی پر مصحفی ہے۔ محفوظ کتاب میں ہے۔

Colored by:
Muhammad Shaikh

صانع: محمد شیخ

الفاتحة ١

آياتها ٧

رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ②

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑦

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّالِّينَ ⑧

البقرة ٢

آياتها ٢٨٦

رُكُوعَاتُهَا ٢٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَعَانِيهِ
الجزء ١

آلَمَّا ١ ذَلِكِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ

فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ٢ الَّذِينَ

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ
 أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ
 مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا لَيْتُمْ أَلَّا خِرْنَا لَمْ نُؤْمِنْ بِمَنِينٍ ﴿٨﴾
 يُجَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُجَادِعُونَ اللَّهَ أَنفُسَهُمْ
 وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا قِيلَ
 لَهُمْ لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٢﴾
 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا
 قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ
 السُّفَهَاءُ ﴿١٤﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾
 وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ
 شَاطِئِنَاهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٦﴾
 اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٧﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ
 وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
 فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي
 ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ
 كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ
 أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
 بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ
 مَشْوَاهِ فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ
 بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ
 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ
 فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ
 مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا
 شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَئِن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ ٢٤ ۝ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا
 رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا لَهَا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ
 وَأَتُوا بِهِ مُمْتَسِكِينَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ۚ ٢٥ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا
 فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا
 الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ
 بِهِ كَثِيرًا ۚ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۚ ٢٦ ۝
 الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ
 هُمُ الْخَاسِرُونَ ۚ ٢٧ ۝ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا
 فَأَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ ٢٨ ۝
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى
 السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩ ۝

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا
 أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاطَ وَيُزْحِنُ نُسَبَّحُ
 بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٣٠ وَعَلَّمَ
 آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي
 بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝٣١ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا
 إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝٣٢ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ
 بِأَسْمَاءِهِمْ ۗ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
 غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝٣٣
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طُ أْبَىٰ وَ
 اسْتَكْبَرَ ۗ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝٣٤ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ
 وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
 هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝٣٥ فَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ
 عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۗ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
 لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝٣٦ فَتَلَقَىٰ
 آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝٣٧

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّا يَا تِبَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ
 هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣٨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٩
 يٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا
 بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ٤٠ وَإِنِّي أَنَا
 أَنْزَلْتُ مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِينَ وَلَا تَشْرَوْا
 بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ٤١ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
 وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُعِينَ ٤٣ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
 أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُلُونَ الْكُتُبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٤٤ وَسَاعِدُوا بِالصَّبْرِ
 وَالصَّلَاةِ وَأِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ٤٥ الَّذِينَ يَظُنُّونَ
 أَنَّهُم مُّقْرَّبُونَ وَأَنَّهُمْ قُلُوبًا رَّيْبِيَّةٌ وَأَنَّهُمْ رَاجِعُونَ ٤٦ يٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ٤٧
 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ
 مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٨

سورة

سورة

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
 يَدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ
 رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٤٩ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ
 فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٥٠ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
 ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ٥١ ثُمَّ عَفَوْنَا
 عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٢ وَإِذْ اتَيْنَا مُوسَىٰ
 الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
 يَقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ ظَالِمًا لِّنَفْسِي أَنفَسِكُمْ بِإِخْذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا
 إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ
 بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ٥٤ وَإِذْ
 قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ
 الصَّيْقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٥٥ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٦ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا
 عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَٰى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
 وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
 رَغَدًا أَوْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا أَوْ قُولُوا حِطَّةً نَّغْفِرْ لَكُمْ
 خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا
 غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا
 مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِذْ اسْتَسْفَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
 فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ
 اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ
 لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
 تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَ
 بَصِلَهَا قَالَ أَسْتَبْدِلُوكُنَ الَّذِي هُوَ آدَنِي بِالَّذِي هُوَ
 خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ فَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
 الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا وَيَغَضِبُ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ
 بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

١٠٨

١٠٨

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرِي وَالصَّبِيَّانَ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا
 مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ
 اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾
 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ
 كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا
 وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذُبُّوا بَقَرَةً ط قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ط
 قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا
 رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ط قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
 لَا فَرْسٌ وَلَا بَكْرٌ ط عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ط فَاذْعَبُوا مَا تُمِرُونَ ﴿٦٨﴾
 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا ط قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ
 إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النُّظُرِينَ ﴿٦٩﴾

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ط
 وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۗ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
 لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط
 قَالُوا لئن جِئْتِ بِحَقِّ ط فذبحوها وما كادوا يفعلون ۗ ﴿٧١﴾ وَ
 إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادِّرْءَ تُمْ فِيهَا ط وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ
 تَكْتُمُونَ ۗ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ط كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى ۗ
 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۗ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ط وَإِن مِّنَ الْحِجَارَةِ
 لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ إِلَّا نَهْرٌ ط وَإِن مِّنْهَا لَمَاءٌ يَشْقَى فَيَخْرُجُ مِنْهُ
 الْمَاءُ ط وَإِن مِّنْهَا لَمَاءٌ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ط وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ۗ ﴿٧٤﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ جِئَرُوا مِن بَعْدِ
 مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۗ ﴿٧٥﴾ وَإِذْ الْقَوَالِذِينَ آمَنُوا قَالُوا
 آمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا بِعَضُدٍ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذَ تُونَهُمْ بِمَا
 فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ ﴿٧٦﴾

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَ
 مِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا
 يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ
 يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشَارَوْا بِهِ ثُمَّ قَلِيلًا ط قَوْلٌ
 لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوا
 لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ط قُلْ أَتَّخِذُكُمْ عِنْدَ
 اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكُمْ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا
 لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ق وَالَّذِينَ أَحْسَنَ آوَادِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
 حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ط ثُمَّ
 تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

التصنيف

٥٣٥

وَإِذَا خذُنا مِيثاقَكُم لَأَن لاَّ تُسِفِكُونَ دِماءَكُمُ ولا تَخْرُجُونَ
 أَنْفُسَكُم مِّن ديارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهِدُونَ ﴿٨٤﴾
 ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمُ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ
 مِّن ديارِهِمْ يُظْهِرُونَ عَلَیْهِم بِالْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن
 يَأْتوكُمْ أُسارى تَفدُوهُمْ وَهُم وَهُوَ حَرَمٌ عَلَیْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
 أَفْتَوْا مُنُونٌ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ
 مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِّنْكُمْ الْآخِزِيُّ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيا وَیَوْمَ
 الْقِیامَةِ یُرَدُّونَ إِلی أَشَدِّ الْعَذابِ وَمَا اللهُ بِخافِلٍ عَمَّا
 تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَیوةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ
 فَلَا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذابُ وَلَا هُمْ یُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾ وَ
 لَقَدْ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتابَ وَقَفَّینا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
 وَاتَّيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّناتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ
 بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا یُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
 وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا
 جَاءَهُمْ قَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾
 بِسْمَا أَشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۖ أَن يَكْفُرُوا ۖ وَإِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا
 أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ
 فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
 مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾ ۖ وَإِذْ أُقِيلَ لَهُمْ أَمْنٌ ۖ وَإِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا
 نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا ۖ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ
 الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ
 اللَّهِ مِنْ قَبْلُ ۖ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ ۖ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ
 مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ
 ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ ۖ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ۖ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ
 الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا
 وَعَصَيْنَا ۗ وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۗ
 قُلْ بِسْمَايَا مُّرْكُم بِهِ إِيْمَانُكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ
 دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٤ وَ
 لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بِالظَّالِمِينَ ٩٥ وَلَتَجِدَنَّهِنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ
 مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَافِرُ اللَّهُ سَنَةً ۚ وَ
 مَا هُوَ بِفَرْحِ حَرْجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَفَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
 يَعْمَلُونَ ٩٦ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ
 عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى
 وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٩٧ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ
 رُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ٩٨
 وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا
 الْفَاسِقُونَ ٩٩ أَوْ كَلِمَاتٍ عَاهِدُوا عَاهِدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ
 اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ ١٠١

معانقة ٢

==

وَاتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْآيَاتِ الْكُفْرَىٰ وَاتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْآيَاتِ الْكُفْرَىٰ
 كَفَرُوا سُلَاطِمًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ الْكٰفِرُونَ الْكٰفِرُونَ الْكٰفِرُونَ الْكٰفِرُونَ الْكٰفِرُونَ الْكٰفِرُونَ الْكٰفِرُونَ الْكٰفِرُونَ
 السِّحْرِ وَمَا نُزِّلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
 وَمَا يَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
 تَكْفُرْ فَيَعْلَمُونَ مِنْهَا مَا يَفِرُّ قَوْمٌ بِهِ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَ
 زَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
 وَيَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا
 لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَقَفَّٰٓءُ
 مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ
 آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا
 يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ
 قُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾
 مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
 أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ
 بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

مَا نُنسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِها نأت بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلها ١٠٥
 تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٦
 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ
 مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٧
 أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا
 سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ
 فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ١٠٨
 وَكَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ
 لَو يُرَدُّ وَنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ١٠٩
 حَسَدًا مِنْ عِنْدِ
 أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا
 وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ١١٠
 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ١١١
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ١١٢
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ١١٣
 وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا
 أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ١١٤
 بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ
 أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ١١٥
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١١٦

الثالثة

١٦

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى
 لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
 مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا
 أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي
 الدُّنْيَا خِزْيٌ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ
 وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اخذنا الله ولدا سبحانه بل له ما في السموات
 والارض كل لله قنتون ﴿١١٦﴾ بديع السموات والارض و
 اذا قضى امرا فائما يقول له كن فيكون ﴿١١٧﴾ وقال الذين
 لا يعلمون لولا يكلمنا الله او اتينا آية كذالك
 قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم
 قد بينا الآيات لقوم يوقنون ﴿١١٨﴾ انا ارسلناك بالحق
 بشيرا ونذيرا ولا تسئل عن اصحاب الجحيم ﴿١١٩﴾

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ
 قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ
 الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَلْفَاظَهُمُ الْكُتُبِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ
 بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝
 اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ۗ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝
 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ۗ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
 عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ۗ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝
 وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ
 قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝
 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَشَابَهًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَأَخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ ۗ وَعَهَدْنَا
 إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ
 السُّجُودِ ۝
 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ
 أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ۗ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ
 كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ۗ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

وقد نزل

١٤

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن
 ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٣٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
 مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٣٩﴾ وَمَنْ يَّرْغَبْ عَن مِّلَّةِ
 إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٤٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ
 قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤١﴾ وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ
 وَيَعْقُوبَ يُبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
 وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١٤٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
 الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ
 إِلَهًا وَآلَهُ أَبَايَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا
 وَنَحْنُ لَهُ مُّسْلِمُونَ ﴿١٤٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
 وَلَكُمْ فَآ كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۵﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ
 إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ
 الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
 رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ^ص وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۶﴾ فَإِنْ
 آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَىٰ ^{وَج} وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
 هُمْ فِي شِقَاقٍ ^ج فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ^ج وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ^ط ﴿۱۳۷﴾
 صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ^ز وَنَحْنُ لَهُ
 عِبْدُونَ ﴿۱۳۸﴾ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا
 أَعْمَالُنَا وَأَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ^ل ﴿۱۳۹﴾ أَمْ تَقُولُونَ
 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
 هُودًا أَوْ نَصْرًا قُلْ ^ط أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ^ط وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۴۰﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ^ع لَهَا مَا كَسَبَتْ ^ع وَلَكُمْ
 مَّا كَسَبْتُمْ ^ع وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^ع ﴿۱۴۱﴾